

کوئی برادری رذیل نہ ہے

مفتی اعظم ہند شہزادہ علی حضرت، علام
مولانا مصطفیٰ رضا حنفی افتابی نوری



شہزادہ علی حضرت امام الفقہاء مفتی اعظم حضرت علامہ شاہ محمد صطفیٰ رضا قادری نوری رضی تعالیٰ



شہزادہ علی حضرت امام الفقہاء مفتی اعظم
حضرت علامہ شاہ محمد صطفیٰ رضا قادری نوری رضی تعالیٰ

رضا اکبر دمیع

۲۶۔ کامبیک راستہ تیریٹ، ممبئی

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں

سلسلہ اشاعت

نام کتاب: کوئی برادری رذیل نہیں

مصنف: مفتی اعظم حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا خاں نوری، بریلوی

تصحیح: مولانا مفتی سید شاہد علی حسینی رضوی، راپوری

تحریک: مولانا الحاج محمد سعید نوری

حسب فرمائش: نبیرہ اعلیٰ حضرت مولانا عسجد رضا خاں

سنہ اشاعت: صفر المظفر ۱۴۲۵ھ / مارچ ۲۰۰۳ء

کمپوزنگ: مولوی محمد انور رضا بریلوی، تیس احمد شمسی پیلی بھٹی

ناشر: رضا آکیڈمی ۲۶ براکامبیکا اسٹریٹ، ممبئی ۳

باہتمام: مولانا محمد شہاب الدین رضوی

ملنے کے پتے

شah برکت اللہ اکیڈمی

رضا آگر، سوداگران، بریلوی شریف فون نمبر 0581-2552278-2550087

نوری کتب خانہ۔ لال مسجد، راپور شریف ۰۹۲۳۳۹۰۰۰۰ پاکستان

کتب خانہ امجدیہ نیا محل، جامع مسجد، دہلی ۲

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسله الكريم

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع میں اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کہتا ہے، اعلیٰ حضرت قبلہ نور اللہ مرقدہ نے اپنے فتویٰ کتاب النکاح میں جو لا ہوں و نائیوں و موجیوں وغیرہم کو ذلیل لکھا ہے، کہ یہ لوگ ذلیل ہیں تو کیا واقعی یہ لوگ ذلیل ہیں اور یہ کہاں تک پچ ہے۔ اور حضور ان لوگوں کو کیسا سمجھتے ہیں۔ بینوا و توجروا۔

الجواب:

مسلمان ہونا عزت ہے اور کافر ہونا ذلت ہے، چمار جنہیں وہ جو اپنے آپ کو شریف کہتے ہیں۔ یعنی شیخ، مثل، پٹھان وغیرہ اور وہ جوان اتوام نذکورہ سے اپنے آپ کو خود بھی چھوٹا جانتے ہیں یعنی دھنے، جولا ہے، نائی، موجی وغیرہ۔ آج اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ اس پٹھان، اس شیخ، اس مثل بلکہ اس مدعا نی سیادت سے بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ جو معاذ اللہ کفر کرے۔ وہابی یا رافضی یا قادریانی وغیرہ ہو جائے بلکہ حقیقتہ وہی عزت والا اور بڑی عزت والا ہے۔

قال تعالى: اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اور عزت تو انہا اور اسکے رسول اور مسلمانوں ہی کیلئے ہے۔ (کنز الایمان) وَلِلّٰمُؤْمِنِينَ۔ (۱)

وہ ان عزیزوں میں داخل جن کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے بعد عزت والا فرمایا۔ بخض قرآنی عزت کا مسلمانوں میں حصر ہے۔ کسی کافر کو عزت نے ادنیٰ واسطہ نہیں، وہ کافر اصلی ہو یا مرتد کہ اسلام کا مدعی ہو۔ اور کفار ہی ذلیل ہیں۔

اللّٰهُ تَعَالٰى نے فرمایا۔

قال تعالیٰ:

وَهُوَ سب سے زیادہ ذلیلوں میں اُولِئِكَ فِي الْأَذَلِينَ۔ (۲) (کنز الایمان)

پھر مسلمانوں میں عزیزو بزرگ تر وہ ہے جو مقنی و پرہیز گار ہو، جو جتنا مقنی ہو گا اسی کا مرتبہ زیادہ بلند و بالا ہو گا۔

اللّٰهُ تَعَالٰى نے فرمایا۔

قال تعالیٰ:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتَقْنَمُكُمْ ۔ پیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ

(۳)

پرہیز گار ہے۔

بھنگی، چمار مسلمان ہو کر تقویٰ اختیار کرے، عالم دین بنے، وہ جاہل شیخ، مغل، پٹھان، فاسق مغل، پٹھان سے اللہ و رسول کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اور جاہل فاسق مدعا شرافت اپنے فتن و فجور کے سبب ذلیل

ہے، رہا عرف تو اس میں یہ چار قویں شریف گنی جاتی ہیں، باقی کسی حیثیت
بے ان سے کمتر، اسی پر شریعت نے کفایت کا اعتبار فرمایا۔

شریعت پاک کے بعض مسائل کا مدار عرف پر ہے، اگر ہندوستان
میں پٹھان اور مغل اور شیخ عالم دین کو حضراتِ سادات اپنے برابر نہ شمار کرتے
اور غرفاً ان کی سیدوں کے بہ نسبت کم نسبی کا وزن شرافتِ علم سے پورا نہ ہوتا
تو ہر گز وہ بھی ان کے کفونہ ہو سکتے۔

فتاویٰ رضویہ میں جہاں جولا ہوں وغیرہ کو تحریر فرمایا کہ وہ عالم ہو کر
بھی سیدوں کے کفونہ میں ہو سکتے، وہاں یہ بھی تحریر فرمادیا کہ اس وقت تک،
جب تک ان سے عار باقی ہے۔ جہاں وہ تحریر فرمایا کہ مغل پٹھان وغیرہ عالم
ہو کر ان کے کفونہ ہوتے ہیں، وہاں وجہ بھی لکھ دی ہے کہ اس ملک میں مغل
پٹھان وغیرہ علماء سے سادات کو عار نہیں ہوتی۔

اعلیٰ حضرت پر پا افترا محفض ہے کہ انہوں نے جولا ہوں، نائیوں
ہموجیوں کو ذلیل لکھا ہے۔

خداۓ تعالیٰ کے ارشاد: وَقُدْحَابَ مَنْ افْتَرَى (۴) سے مفتر کو
کوڑنا چاہیے اور پھر وہ بھی ایسے امامِ حلیل پر، وہ بھی بعد وصال - وَ لَا حَوْلَ
وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - پیشہ کی دنائیت حقیقت مسلزم و نایت شخص نہیں۔ کما ہو
ظاہر۔ جب یہ اس شری کذاب کا شخص دروغ بے فروغ ہے۔ حضرت
ان لوگوں کو کہیں ذلیل نہ تحریر فرمایا بلکہ اس مفتر کی کذاب کی دروغ بانی خو

ئی مبارکہ کتاب النکاح حصہ سوم سے ظاہر ہے ص ۱۲۰ ملاحظہ ہو۔
اگر کوئی چھار مسلمان ہو تو مسلمانوں کے دین میں اسے تظریت سے دیکھنا حرام اور سخت حرام ہے وہ ہمارا دینی بھائی ہو گیا۔

حالی فرماتا ہے:
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ (۵)
مسلمان مسلمان بھائی بھائی
ہیں۔ (کنز الایمان)

بر فرمایا:
إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ (۶)
تو دین میں تمہارے بھائی
ہیں۔ (کنز الایمان)

پھر اسی صفحہ پر فرمایا ہے کہ ان کے سوا جو تو میں رہ گئیں کہ باری عرف میں ذیل سمجھی جاتی ہیں اخ - صفحہ ۱۱۸ پر فرمایا تھا وہ مغل، پٹھان یا غیر قریشی، شیخ مثلاً انصاری کہ اگر چہ یہ قومیں شریف گئی جاتی ہیں، اخ بلکہ اسی صفحے ۱۱۸ پر جس کی عبارت دکھا کر اس کذاب مفتری نے یہ جیتا بہتان باندھا وہیں تھا:

”پٹھان، مغل یہاں اپنے آپ کو شرفائے اصحاب سے شمار کرتے ہیں“۔

ان عبارات سے اس کذاب کا کذب واضح ہو گیا اور کھل گیا کہ حضرت قدس سرہ نے کہیں جو لاہول، ناسیول، غیرہ کو ذیل نہیں تحریر فرمایا اور وہ جو ذیل پیشہ در تحریر جاوہ

پیشہ کی عرفی ذلت ہے۔ ان عبارتوں میں ہر ذرا سا پڑھا ہوا بادنی تأمل جان لے گا کہ عرف پر کلام ہے کیا جگہ جگہ پٹھان وغیرہم کونہ فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو شریف شمار کرتے ہیں، یہ قومیں شریف گئی جاتی ہیں۔ یونہی کہ یہ جو لاء، نالی وغیرہ کے پیشے ذلیل عرفی ہیں۔ رہی عزت حقیقی وہ اسلام اور حسن عمل ہے جو صفحہ ۱۲۰ کی عبارت سے ظاہر سے صفحہ ۱۲۱ پر فرمایا کہ شرافت قوم رمحصر نہیں۔

اللہ عز و جل فرماتا ہے:

اَنْ اَكْرَمْكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
تِمْ میں زیادہ مرتبہ والا اللہ کے نزدیک
وہ ہے جو زیادہ تقویٰ کی رکھتا ہے۔ آتِقَكُمْ (۷)

جب حضرت قدس سرہ نے یہ نص فرمادی تو ظاہر ہو گیا کہ حضرت کے نزدیک ہر وہ جو لا ہے، وہ نالی، وہ دھنیاء، وہ موچی، وہ چھپی، وہ قصالی، بلکہ وہ چھار، وہ بھنگی جو بعدِ اسلام نیک عمل کرے، متقی و پرہیز گار بنے، شریف ہے۔ اور ہر وہ مغل، پٹھان، وہ شیخ جوفش و فجور میں بتلا ہو ذلیل، اللہ اس مفتری کو توبہ کی طرف ہدایت فرمائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصوراں۔ فقیر محمد مصطفیٰ رضا خاں قادری عفی عنہ۔

☆ صح الجواد والله اعلم بالصواب۔ فقیر محمد حامد رضا قادری نورہ
رضوی خادم سجادہ و گدائے آستانہ عالیہ رضویہ بریلی۔

الله صاح الجواب والله تعالى اعلم. سگ بارگاه عاليه مدرسه رضویه
ابوالمعانی محمد ابرار حسین صدیقی غفرله.

☆ الجواب صحيح۔ حضور پر نور، مرشید برحق، امام اہلسنت، مجدد دین و ملت، سیدنا اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پران قوموں کا ذلیل سمجھنا افراطِ محض و کذب بحث ہے۔ ہر شخص جس نے حضور اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، وہ جانتا ہے کہ حضور پر نور کا ان اقوام کے سی مسلمانوں کے ساتھ کس قدر کریمانہ، مشفقاتنے، رحیمانہ برتاو تھا۔ ان کے یہاں عوتوں میں تشریف لے جاتے، ان کے یہاں تشریف لیجا کرو وعظ فرماتے، ان کی خواہش پر بیعت سے مشرف فرماتے، انہیں اپنے کاشانہ نے پر تقریبات میلاد شریف و عرسِ مریپاقدس وغیرہ میں محبت سے بلا تے، اور ان پر انتہائی شفقت فرماتے رضی اللہ عنہ۔ اگر معاذ اللہ حضور اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ ان بھائیوں کو ذلیل سمجھتے تو کیا ایسا ہی برتاو فرماتے، جو شخص کسی کو اپنے سے ذلیل سمجھتا ہے اس سے ایسا ہی برتاو کرتا ہے؟ مگر یہ کہ خدا حیاء دے وایمان دے آئیں۔

نقیر ابوالثخ عبید الرضا

محمد حشمت علی قادری رضوی لکھنؤی غفرلہ ولا بیویہ رب القوی

☆ الجواب صحيح۔ نقیر محمد علی قادری، حامدی، آنلوی غفرلہ

حوالہ جات

- (۱) پیغمبر، سورۃ المنا فقول، ع، آیت ۸۔ (۲) پیغمبر، سورۃ الحجۃ، ع، آیت ۳۰۔
- (۳) پیغمبر، سورۃ الحجرات، ع، آیت ۱۳۔ (۴) پیغمبر، سورۃ طہ، ع، آیت ۲۱۔ اور یہ تکن نامدار ہے جس نے جھوٹ باندھا۔ (کنز الابیان) (۵) پیغمبر، سورۃ الحجرات، ع، آیت ۱۰۔ (۶) پیغمبر، سورۃ الاحزاب، ع، آیت ۵۔ (۷) پیغمبر، سورۃ الحجرات، ع، آیت ۱۳۔